

Press Release on the current situation in Afghanistan

August 17, 2021

افغانستان کی موجودہ صورتحال سے متعلق پریس ریلیز

17 اگست، 2021

کابل کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے سفارت خانے کے اہلکاروں کو فوری طور پر بھارت منتقل کیا جائے گا۔ یہ عمل دو مرحلوں میں مکمل ہو چکا ہے اور بھارتی سفیر اور ہندوستان سے تعلق رکھنے والے دیگر تمام اہلکار آج دوپہر نئی دہلی پہنچ گئے ہیں۔

ہم افغانستان کے سکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورت حال کو دیکھتے ہوئے وہاں مقیم تمام ہندوستانی شہریوں کے لیے وقتاً فوقتاً سفر اور سیکورٹی ایڈوائزری جاری کرتے رہے ہیں۔ جو پہلے سے ہی افغانستان میں ہیں ان سے فوری طور پر واپس آنے کی تاکید کی گئی ہے جبکہ دوسروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ وہاں سفر نہ کریں۔ بہر حال، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے ہندوستانی اس ملک میں پھنسے ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ تیسرے ممالک کی تنظیموں کے ملازم ہیں۔ ہماری فوری ترجیح افغانستان میں موجود تمام ہندوستانی شہریوں کے بارے میں درست معلومات حاصل کرنا ہے۔ ان سے اور / یا ان کے مالکوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ متعلقہ تفصیلات فوری طور پر بھارتی وزارت خارجہ کے خصوصی افغانستان سیل کے ساتھ شیئر کریں:

فون: +91-11-49016783, +91-11-49016784, +91-11-49016785

واٹس ایپ: +91 80106 11290

ای میل: SituationRoom@mea.gov.in

جہاں تک افغان شہریوں کا تعلق ہے، ہماری ویزا سروسز ایک ایمرجنسی ویزا سہولت کے طور پر جاری رہیں گی، جسے افغان شہریوں کو بھی دیا گیا ہے۔ اسے ہمارے ای ویزا پورٹل کے ذریعے <https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Registration> حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں پہلے ہی افغان سکھ اور ہندو برادری کے رہنماؤں کی جانب سے درخواستیں موصول ہوئی ہیں اور ہم ان سے رابطے میں ہیں۔

افغانستان آنے اور جانے کے لیے اہم چینج کابل ایئرپورٹ کی آپریشنل حیثیت ہے۔ اس پر ہمارے شراکت داروں کے ساتھ اعلیٰ سطح پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جس میں امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ بھارتی وزیر خارجہ کی بات چیت شامل ہے۔ حکومت ہند تمام ہندوستانی شہریوں کی بحفاظت واپسی کے لیے پرعزم ہے اور ایک بار جب کابل ایئر پورٹ تجارتی کاموں کے لیے کھلا تو پروازوں کے انتظامات شروع کرے گا۔

نئی دہلی

17 اگست، 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.